

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَذَرْنَا الْفِرْنَانَ الَّذِیْ هُوَ مِنْ حِجَّتِ الْمُؤْمِنِیْنَ

قرآن پاک کی معنوی تحریف اور فرقہ وادیت کی نحوست سے محفوظ اُردو ترجمہ



عربی لغت کے عین مطابق بیک وقت لفظی اور باحاورہ آسان ترین اُردو ترجمہ

ترجمہ
 پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ

ضیاء امت آسان پبلی کیشنز
 لاہور - کراچی
 پاکستان

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ

یہ سب رسول، ہم نے فضیلت دی ہے (ان میں سے) بعض کو بعض پر، ان میں سے کسی سے کلام فرمایا

اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ

اللہ نے اور بلند کئے ان میں سے بعض کے درجے، اور دیں ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں

وَآيَاتِنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ الَّذِينَ مِنْ

اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے (جھگڑتے) وہ لوگ جو

بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا

ان (رسولوں) کے پیچھے آئے بعد اس کے کہ آگئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں لیکن انہوں نے اختلاف کیا

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا

ان میں سے کوئی ایمان پر (ثابت) رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے (جھگڑتے)۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو! خرچ کر لو

مَسَارِقَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ

اس (مال) سے جو ہم نے دیا ہے تم کو اس سے پہلے آجائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہو گی اور نہ (کفار کے لئے) دوستی ہوگی

وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝۲۵۴ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اور نہ (ان کے لئے) شفاعت، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ (وہ ہے کہ) کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي

اس کے، زندہ ہے سب کو زندہ رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس

إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

بغیر اس کی اجازت کے، جانتا ہے جو ان سے پہلے (ہو چکا) ہے اور جو ان کے بعد (ہونے والا) ہے، اور وہ نہیں گھیر سکتے

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَ

کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے، سارکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور

الْأَرْضَ وَلَا يُؤْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۲۵۵﴾

زمین کو ، اور نہیں تھکانی اسے زمین و آسمان کی حفاظت ، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا - کوئی

إِكْرَاهٍ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ

زبردستی نہیں ہے دین میں ، بے شک خوب واضح ہوگئی ہے ہدایت گمراہی سے ، تو جو

يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ تو اس نے پکڑ لیا مضبوط

الْوَثْقِ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵۶﴾ اللَّهُ وَلِيُّ

حلقہ ، جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ، جاننے والا ہے - اللہ مددگار ہے

الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ

ایمان والوں کا نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف ، اور جنہوں نے

كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

کفر کیا ان کے ساتھی شیطان ہیں نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف ،

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵۷﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي

یہی لوگ دوزخی ہیں ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں - کیانہ دیکھا آپ نے (اے حبیب) اسے جس نے

حَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ فِي رِيَّةٍ أَنْ ائْتَاهُ اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہی ، جب کہ کہا ابراہیم (علیہ السلام) نے (اسے)

رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں ، ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسُّنَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ

کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو تو نکال لا اسے

الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

مغرب سے (بین کر) ہوش اڑ گئے اس کافر کے ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا

الظَّالِمِينَ ﴿۲۵۸﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى

ظالم قوم کو - یا (کیانہ دیکھا) اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر درآں حالیہ وہ گری پڑی تھی

عُرُوْشَهَاۗ قَالَ اِنِّىۤ اٰتٰىنِىۤ هٰذِهِۦ اللّٰهُۤ بَعْدَ مَوْتِهَاۗ فَاَمَّا تِلْكَ اٰیَةُ اللّٰهِ

اپنی چھتوں کے بل، کہنے لگا: کیونکر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد، سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے

مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثْنٰهُۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتُۙ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًاۙ اَوْ

سو سال تک پھر زندہ کیا اسے، فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا، اس نے عرض کی: میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا

بَعْضُ يَوْمٍۙ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍۙ فَانظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ

دن کا کچھ حصہ، اللہ نے فرمایا: نہیں، بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو سو سال اب (ذرا) دیکھ اپنے کھانے

وَشَرَابِكَ لَمْ يَكُنَّ لَكَۙ وَالنَّظْرُ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ اٰیَةً

اور اپنے پینے (کے سامان) کی طرف یہ بات نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کو اور یہ سب اس لئے کہ ہم بتائیں تھے نشانی

لِلنَّاسِۚ وَانظُرْ اِلٰى الْعِظَامِۙ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا عِظًاۙ

لوگوں کے لئے اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں پھر (کسے) ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت،

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥۙ قَالَ اَعْلَمُۙ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْۡءٍ قَدِيْرٌۙ

پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لئے (تو) اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىۤ كَيْفَ تَحْيِى السُّوْتِىۙ قَالَ اُوْلٰئِكَ لَمُؤْمِنٰٓتٌۙ

اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے: اے میرے پروردگار! دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو فرمایا: (اے ابراہیم!) کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے،

قَالَ بَلٰىۙ وَّلٰكِنْ لِّيَطْمِئِنَّ قَلْبِىۙ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعًا مِّنَ الطَّيْرِۙ

عرض کی: ایمان تو ہے لیکن (یہ سوال اس لئے ہے) تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، فرمایا: تو پکڑ لے چار پرندے

فَصَرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ

پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا پھر

ادْعُهُنَّ يٰۤاٰتِيْنَكَ سَعِيًّاۙ وَاَعْلَمُۙ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌۙ

بلا انہیں چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ مثال

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىۤ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍۙ

ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ

اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍۙ فِىۤ كُلِّ سُنْبُلَةٍۙ مِّمَّاۤءَةٌ حَبَّةٍۙ وَاللّٰهُ

جو اگاتا ہے سات بالیں اور ہر بالی میں سو دانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ (اس سے بھی)

يُضْعَفُ لِسَنِ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمُ ﴿٢٣١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

بڑھا دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے، اور اللہ وسیع بخشش والا، جاننے والا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں

أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا

اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور

أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

نہ دکھ دیتے ہیں انہیں کے لئے ثواب ہے ان کا ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ

يَحْزَنُونَ ﴿٢٣٢﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا

غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کرنا اور (غلطی) معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے

أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا

دکھ پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے بڑے حلم والا ہے۔ اے ایمان والو! مت ضائع کرو

صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ

اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَثَلْبَةُ كَيْفِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ

اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور دن قیامت پر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی

تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ

چنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے پھیل صاف پتھر، (ریا کار) حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی

مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٣٤﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ

اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ اور مثال ان لوگوں کی جو

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لئے اور اس لئے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل

كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُظًا ضَعْفَيْنِ

ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو برسا ہو اس پر زور کا مینہ تو لایا ہو وہ باغ دوگنا پھل،

فَإِنْ لَّمْ يُعِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٥﴾

اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبیم ہی کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ کیا پسند کرتا ہے

أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي

کوئی تم میں سے کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا بہتی ہوں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ

اس کے نیچے ندیاں (کھجوروں انگور کے علاوہ) اس کے لئے اس میں ہر قسم کے اور پھل بھی ہوں اور آگیا ہو اسے بڑھاپے نے

وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا ۖ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهَا نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ

اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو (تو کیا وہ پسند کرتا ہے کہ) بچے اس کے باغ کو بگولہ جس میں آگ ہو پھر وہ باغ جل بھن جائے ،

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ يَا أَيُّهَا

ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے (اپنی) آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو - اے

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِن طَبِئَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

ایمان والو! خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں اور اس سے جو نکالا ہے تم نے

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

تمہارے لئے زمین سے نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے کہ (تم اسے) خرچ کرو حالانکہ (اگر تمہیں کوئی ردی چیز ملے تو) تم نہ

بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۙ

لو اسے بجز اس کے کہ چشم پوشی کرلو اس میں، اور (خوب) جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ

شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے

مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۙ يُوتِي الْحِكْمَةَ

اپنی بخشش کا اور فضل (و کرم) کا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے عطا فرماتا ہے دانائی

مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا

جسے چاہتا ہے، اور جسے عطا کی گئی دانائی تو یقیناً اسے دے دی گئی بہت بھلائی، اور نہیں

يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۙ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ

نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند - اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو

مِنْ تَذَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ النَّصَارِ ۙ إِنَّ

تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور نہیں ہے ظالموں کے لئے کوئی مددگار - اور اگر

تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ

ظاہر کرو (اپنی) خیرات تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

تو بہت بہتر ہے تمہارے لئے، اور (صدقہ کی برکت سے) مٹائے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو

خَيْرٌ ﴿۲۴۱﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ

خبردار ہے - نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کو سیدھی راہ پر چلانا ہاں اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے

يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسِكُمْ ۖ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا

چاہتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو (اپنے) مال سے تو (اس میں) تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور تم تو خرچ ہی نہیں کرتے ہو سوائے

ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا

اللہ کی رضا طلبی کے، اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے (اپنے) مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں اور تم پر

تُظَلَمُونَ ﴿۲۴۲﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا

ظلم نہیں کیا جائے گا - (خیرات) ان فقیروں کے لئے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں نہیں

يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ

فرصت ملتی انہیں (روزی کمانے کے لئے) چلنے پھرنے کی زمین میں، خیال کرتا ہے انہیں ناواقف (کہ یہ) مالدار (ہیں)

مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقَ

بوجہ ان کے سوال نہ کرنے کے (اے حبیب!) آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر،

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۴۳﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

اور جو کچھ تم خرچ کرو گے (اپنے) مال سے پس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں

أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

اپنے مال رات میں اور دن میں چھپ کر اور علانیہ تو ان کے لئے ان کا اجر ہے اپنے

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۴۴﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ

رب کے پاس، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے - جو لوگ کھایا کرتے ہیں

الرِّبَا الْأَيُّقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ

سود وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے

مِنَ الْمَسِّ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَمَوْ

چھوکر ، یہ حالت اس لئے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سود گری بھی سود کی مانند ہے ، حالانکہ

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو ، پس جس کے پاس آئی نصیحت

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ

اپنے رب کی طرف سے تو وہ (سود سے) رک گیا تو جائز ہے اس کے لئے جو گزر چکا ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے ، اور جو شخص پھر سود کھانے لگے

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵﴾ يَسْحَقُ اللَّهُ

تو وہ لوگ دوزخی ہیں ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے - مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ

الرِّبَا وَيُرِي الصِّدْقَ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۲۶﴾

سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو ، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکرے گنہگار کو -

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل ، اور صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور دیتے رہے

الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

زکوٰۃ کو ان کے لئے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ وہ

يَحْزَنُونَ ﴿۲۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

غمگین ہوں گے اے ایمان والو ! ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے

مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۸﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ

سود سے اگر تم (سچے دل سے) ایمان دار ہو - اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو

مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں (مل جائیں گے) اصل مال ، نہ

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿۲۹﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ

تم ظلم کیا کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے - اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے

مَيْسَرَةٍ ط وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَالْقَوَا

خوشحال ہونے تک ، اور بخش دینا اسے (قرض) بہت بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم جانتے ہو - اور ڈرتے رہو

يَوْمًا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

اس دن سے لوٹائے جاوے گے جس میں اللہ کی طرف ، پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ

اور ان پر زیادتی نہ کی جائے گی - اے ایمان والو جب تم ایک دوسرے کو قرض دو

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

مدت مقررہ تک تو لکھ لیا کرو اسے اور چاہئے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل وانصاف سے

وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَجْلِلِ

اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے سکھایا ہے اس کو اللہ نے پس وہ بھی لکھ دے ، اور لکھوائے وہ شخص

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْ شَيْءٍ

جس کے ذمہ حق (قرضہ) ہے اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے اور نہ کمی کرے اس سے ذرہ بھر ،

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتِطِيعُ

پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا اس کی طاقت نہ رکھتا ہو

أَنْ يُسَلِّهُ هُوَ فَيُسَلِّمْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ

کہ خود لکھا سکے تو لکھائے اس کا ولی (سرپرست) انصاف سے ، اور بنا لیا کرو دو گواہ

مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَاتِنِ مِمَّنْ

اپنے مردوں سے ، اور اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا

جن کو پسند کرتے ہو تم (اپنے لئے) گواہ تاکہ اگر بھول جائے ایک عورت تو یاد کرائے (وہ) ایک

الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أُنْ

دوسری کو ، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں ، اور نہ اکتایا کرو اسے

تَكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ

لکھنے سے خواہ (رقم قرضہ) تھوڑی ہو یا زیادہ اس کی میعاد تک ، یہ تحریر عدل قائم کرنے کے لئے بہت مفید ہے اللہ کے نزدیک اور

أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

بہت محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو اور آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچانے کا مگر یہ کہ سودا دست

حَاضِرَةٌ تُدِيرُ دُنْيَاهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

بدنی ہو جس کا تم لین دین آپس میں کرو (اس صورت میں) نہیں تم پر کچھ حرج اگر نہ بھی لکھو اسے،

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ

اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو اور ضرر نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ عَمَّا

تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری، اور ڈرو کہ اللہ سے، اور سکھاتاہے ہمیں اللہ تعالیٰ (آداب معاشرت)، اور اللہ تعالیٰ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا

فَرِهْنِمْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي

تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو اور اس کا قبضہ دیا کرو، پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے دوسرے پر، پس چاہئے کہ ادا کر دے وہ جس پر

أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ

اعتبار کیا گیا ہے اپنی امانت کو اور ضروری ہے کہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور

مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبًا ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

جو شخص چھپاتا ہے اسے تو یقیناً گنہگار ہے اس کا ضمیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔

اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي

اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ

أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْنَ بِهَا سُبُكُمُ بِهِ ۗ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ

تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے رہو حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ

عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان لایا

الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ كُلُّ

یہ رسول (کریم) اس (کتاب) پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اور (ایمان لائے) مومن، یہ سب دل سے مانتے ہیں

بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۗ لَا تَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ

اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو۔ (نیز کہتے ہیں) ہم فرق نہیں کرتے کسی میں

رُسُلِهِ وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ

اس کے رسولوں سے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب! اور تیری طرف

الْمَصِيرُ ۷۸۵ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ

ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کی، اس کو اجر ملے گا جو (نیک عمل) اس نے کیا

وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذُنَا إِنَّا تَسِينَا أَوْ

اور اس پر وبال ہوگا جو (بر عمل) اس نے کمایا، اے ہمارے رب! نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا

أَخْطَا نَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَي

خطا کر بیٹھیں اے ہمارے رب! نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا تھا ان پر

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَ

جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، اے ہمارے پروردگار! نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں، اور

اعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا

درگزر فرما ہم سے، اور بخش دے ہم کو، اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا دوست (اور مددگار) ہے تو مدد فرما ہماری

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۷۸۶

تو اے کفار پر۔

۸

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ۳ مَكِّيَّةٌ ۸۹ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ آل عمران مدنی ہے اس کی آیتیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ دو سو اور کو شروع میں ہیں

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۗ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

الف۔ لام۔ میم۔ اللہ (وہ ہے کہ) کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے زندہ ہے سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۗ

حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے ان (کتابوں) کی جو اس سے پہلے (اتری) ہیں اور اتاری اس نے توراہ اور انجیل

مَنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ

اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور اتارا فرقان کو، بے شک وہ لوگ جنہوں

كَفَرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۗ

نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے لئے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ٥

بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پوشیدہ رہتی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں -

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے (ماؤں کے) رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، کوئی معبود نہیں بغیر اس کے

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٦ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ

(وہی) غالب ہے حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب اس کی کچھ آیتیں

فَحُكْمٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ

محکم ہیں وہی کتاب کی اصل ہیں اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، پس وہ لوگ

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ

جن کے دلوں میں کجی ہے سو وہ پیروی کرتے ہیں (صرف) ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں قرآن سے (ان کا مقصد) فتنہ انگیزی

وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّسُخُونَ فِي

اور (غلط) معنی کی تلاش ہے، اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو بغیر اللہ تعالیٰ کے، اور

الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا

علم والے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساتھ اس کے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر

أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ ۗ رَبَّنَا لَا تَزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ

عقلند - اے ہمارے رب! نہ بڑھے کر ہمارے دل بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہمیں اور

هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ٨ رَبَّنَا

عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار!

إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ

بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اس دن کے لئے نہیں کوئی شبہ جس (کے آنے)، میں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پھرتا اپنے

الْبَيْعَادَةِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تَعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا

وعدہ سے - بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ

أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٩

ان کی اولاد اللہ (کے عذاب) سے کچھ بھی، اور وہی (بدبخت) ایندھن ہیں آگ کا

كذَّٰبٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا ۙ

(ان کا طریقہ) مثل طریقہ آل فرعون کے اور ان لوگوں کے تھا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو،

فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۙ ۱۱ ۙ قُلْ

پس پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (اے میرے رسول!) فرما دو

لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اسْتَغْلَبُوْنَ وَتَحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۗ وَيَسُّ

ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عنقریب تم مغلوب کئے جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا

الِهَادِ ۙ ۱۲ ۙ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئْتَيْنِ التَّتَاتِفَتِ تَقَاتِلُ

ٹھکانا ہے۔ بے شک تھا تمہارے لئے (عبرت کا) نشان (ان) دو گروہوں میں جو ملے تھے (میدان بدر میں)، ایک گروہ لڑتا تھا

فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاٰخِرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاٰى

اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا دیکھ رہے تھے (مسلمان انہیں) اپنے سے دو چند (اپنی)

الْعَيْنِ ۗ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَّشَاءُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

آنکھوں سے، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے، یقیناً اس واقعہ (بدر) میں

لَعِبْرَةٌ لِّاُولٰٓئِى الْاَبْصَارِ ۙ ۱۳ ۙ زَيْنٌ لِّلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ

بہت بڑا سبق ہے آنکھ والوں کے لئے۔ آراستہ کی گئی لوگوں کے لئے ان خواہشوں کی محبت

النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرَ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ

یعنی عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کئے ہوئے سونے اور

الْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَاحْتَرَبْتَ ذٰلِكَ مَتَاعَ

چاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے اور چوپائے اور کھیتی، یہ سب کچھ سامان ہے

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَآ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۙ ۱۴ ۙ قُلْ اَوْبَسْتُمْ

دنوی زندگی کا، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانا ہے۔ (اے میرے رسول!) آپ فرمائیے کیا باتوں میں تمہیں

بَخِيْرٌ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِيْ

اس سے بہتر چیز، ان کے لئے جو متقی بنے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں رواں ہیں

مِنْ تَحْتِهَا اَنْهٰرٌ خٰلِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاْجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ

ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے (متقی) ان میں اور (ان کے لئے) پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور حاصل ہوگی انہیں خوشنودی

مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ۝۱۵ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا

اللہ کی ، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! یقیناً ہم

أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝۱۶ الصّٰدِقِيْنَ وَ

ایمان لائے تو معاف فرمادے ہمارے لئے ہمارے گناہ اور بچالے ہمیں آگ کے عذاب سے (یہ مصیبتوں میں) صبر کرنے والے ہیں اور

الصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ

(پہر حالت میں) سچ بولنے والے ہیں اور (عبادت میں) عاجزی کرنے والے ہیں اور (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے والے ہیں اور (اپنے گناہوں کی) معافی مانگنے

بِالْاَسْحَارِ ۝۱۷ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُ وَو

والے ہیں سحری کے وقت شہادت دی اللہ تعالیٰ نے (اس بات کی کہ) بیشک نہیں کوئی خدا سوائے اس کے اور (جہاں کو انہی دی) فرشتوں نے اور

أُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۝۱۸ لَإِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۸ ط

اہل علم نے (ان سب نے یہ بھی گواہی دی کہ وہ) قائم فرمانے والا ہے عدل و انصاف کو ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے (جو) عزت والا ، حکمت والا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۝۱۹ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا

بیشک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اور نہیں جھگڑا کیا جن کو دی گئی تھی

الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ ۝۲۰ وَمَنْ

کتاب مگر بعد اس کے کہ آگیا تھا ان کے پاس صحیح علم (اور یہ جھگڑا) باہمی حسد کی وجہ سے تھا، اور جو

يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۱۹ فَإِنْ حَاجُّوكَ

انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر (ابھی) جھگڑا کریں آپ سے

فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۝۲۰ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا

تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جھکا دیا ہے اپنا سر اللہ کے سامنے اور جنہوں نے میری پیروی کی، اور کہئے ان لوگوں سے جن کو

الْكِتَابَ وَالْأَمِّيْنَ ؕ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ

کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لائے، پس اگر وہ اسلام لے آئیں جب تو ہدایت پا گئے، اور اگر

تَوَلَّوْا فَاسْمَعِيكَ الْبَلْغُ ۝۲۱ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ۝۲۱ إِنَّ الَّذِينَ

منہ پھیر لیں تو اتنا ہی آپ کے ذمہ تھا کہ آپ پیغام پہنچادیں (جو آپ نے پہنچا دیا)، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے (اپنے بندوں کو)۔ بے شک جو

يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ

لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق اور قتل کرتے ہیں۔

التصنيف

۲۱۱

الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۲۱﴾

ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے تو خوشخبری دو انہیں دردناک عذاب کی۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَالَتْ لَهُمْ

یہ ہیں وہ (بد نصیب) اکارت گئے جن کے اعمال دنیا میں، اور آخرت میں اور نہیں ہے ان کے لئے

مَنْ لَصْرِيْنٌ ﴿۲۲﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ

کوئی مددگار - کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا (جب)

يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْيَنٌ فَذَمُّهُمْ

بلائے جاتے ہیں کتاب الہی کی طرف تاکہ تصفیہ کر دے ان کے باہمی جھگڑوں کا تو پیٹھ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے

وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَسْأَلَ النَّاسَ إِلَّا

دراںحالیکہ وہ روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس (بیباکی) کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بالکل نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَّغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۴﴾

چند دن گئے ہوئے اور فریب میں مبتلا رکھا انہیں ان کے دین کے معاملہ میں ان باتوں نے جو وہ خود گھڑا کرتے تھے۔

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَقِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا

سوکیا حال ہوگا (ان کا) جب ہم جمع کریں گے انہیں اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۵﴾ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوَكَّلْتُ

اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (اے حبیب! یوں) عرض کرو، اے اللہ! اے مالک سب ملکوں کے تو بخش دیتا ہے

الْمَلِكِ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ

ملک جسے چاہتا ہے اور پھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے

وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۶﴾

اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ

تو داخل کرتا ہے رات (کا حصہ) دن میں اور داخل کرتا ہے تو دن (کا حصہ) رات میں، اور نکالتا ہے تو زندہ کو

مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْتِزِقُ مَن تَشَاءُ

مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے

بَغَيْرِ حِسَابٍ ۲۷۰ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ

بے حساب - نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست

ذُوْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي

مومنوں کو چھوڑ کر ، اور جس نے کیا یہ کام پس نہ رہا (اس کا) اللہ سے

شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُ وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَ

کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے (یعنی غضب سے) اور

إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۲۷۱ قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ

اللہ ہی کی طرف (سب نے) لوٹ کر جانا ہے۔ فرمادیجئے: اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو اسے،

يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ

جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ، اور اللہ تعالیٰ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۲۷۲ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ

ہر چیز پر قادر ہے - جس دن موجود پائے گا ہر نفس جو کی تھی اس

خَيْرٍ فَحُضْرًا ۗ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَا

نے نیکی اپنے سامنے اور جو کچھ کی تھی اس نے برائی ، تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان (حائل ہوتی)

أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۳۰

مدت دراز ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے (عذاب) سے ، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر -

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

(اے محبوب!) آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (روقی) محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو (تب) محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے لئے

ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۳۱ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ

تمہارے گناہ ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے - آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور (اس کے) رسول، کی پھر اگر

تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۳۲ إِنْ اللَّهُ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ

وہ منہ پھیریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو - بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور

نُوحًا وَالْإِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْمَاعِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۳۳ ذَرِيَّةً بَعْضُهَا

نوح اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان والوں پر ، یہ ایک نسل ہے بعض ان

مِنْ بَعْضِ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۳۴ اِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ

میں سے بعض کی اولاد ہیں اور ، اللہ سب کچھ سننے والا ، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عرض کی عمران کی بیوی نے

رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ فَحَرِّمًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ۚ اِنَّكَ

لے میرے رب! میں نذر مانتی ہوں تیرے لئے جو میرے شکم میں ہے (سب کاموں سے) آزاد کر کے سو قبول فرمائے (پینڈرمانہ) مجھ سے، بے شک تو

اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۳۵ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا

ہی (دعائیں) سننے والا (نبیوں کو) جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا سے (توحیرت و حسرت سے): بولی اے رب! میں نے تو جنم دیا

اَنْتِیْ ط وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ط وَلیْسَ الذَّكْرُ کَالْاُنْثٰی ۚ وَاِنِّیْ

ایک لڑکی کو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ، اور نہیں تھا لڑکا (جس کا وہ سوال کرتی تھی) مانند اس لڑکی کے ، اور (مال نہ کہا) میں نے

سَوَّیْتُهَا مَرِیْمَ وَاِنِّیْ اَعِیْدُهَا بِكَ وَذَرِیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ

نام رکھا ہے اس کا مریم اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود

الرَّحِیْمِ ۳۶ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

(کے شر) سے۔ پھر قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان چڑھانا

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ط كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا

اور نگران بنا دیا اس کا زکریا کو ، جب بھی جاتے مریم کے پاس زکریا (اس کی) عبادت گاہ میں (تو) موجود پاتے اس کے پاس

رِزْقًا قَالِ یٰرَبِّیْ اِنِّیْ لَکَ هٰذَا ط قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط

کھانے کی چیزیں، (ایک بار) بولے لے مریم! کہاں سے تمہارے لئے آتا ہے یہ (رزق): مریم بولیں: یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے،

اِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۳۷ هٰذَا لَکَ دَعَا زَكَرِيَّا

بے شک، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ وہیں دعا مانگی زکریا نے اپنے

رَبِّیْ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیْبَةً اِنَّکَ سَمِیْعٌ

رب سے، عرض کی: اے میرے رب! عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد ، بے شک تو ہی سننے والا ہے

الدَّعَا ۳۸ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِکَةُ وَهُوَ قَائِمٌ یُّصَلِّیْ فِی الْمِحْرَابِ اَنْ

دعا کا - پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے (اپنی) عبادت گاہ میں کہ

اللّٰهُ یَبْشُرُکَ بِبَحْیِیْ مُصَدِّقًا بِکَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسِیّدًا وَّحْصَوْرًا

بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے جو آپ کو بحیٰی کی تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی اور سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں

وَبَيِّنًا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۹﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّي يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَقَدْ

سے بیچنے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین سے - زکریا کہنے لگے اے رب! کیونکر ہوگا میرے ہاں لڑکا حالانکہ

بَلَّغَنِي الْكِبَرَ وَاَمْرًا نِّي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۴۰﴾

آلیا ہے مجھے بڑھاپے نے اور میری بیوی بانجھ ہے، فرمایا بات اسی طرح ہے (جیسی تم نے نبی) لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ اَيُّكَ الْاَكْثَرُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ

عرض کی: اے میرے رب! مقرر فرما دے میرے لئے کوئی نشانی، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکو گے لوگوں سے تین دن مگر

اَيَّامٍ اَلَا رَفْرَافًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿۴۱﴾ وَاذْ

اشارہ سے ، اور یاد کرو اپنے پروردگار کو بہت اور پاکی بیان کرو (اس کی) شام اور صبح - اور جب

قَالَتْ الْمَلِيْكَةُ يٰرَبِّمَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكَ وَطَهَّرَكَ وَاَصْطَفٰكَ

کہا فرشتوں نے اے مریم! بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے تمہیں اور پسند کیا ہے تجھے

عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۲﴾ يٰرَبِّمَ اَقْنَتِيْ لِرَبِّكَ وَاَسْجُدِيْ وَاَرْكَعِيْ

سارے جہان کی عورتوں سے - اے مریم! خلوص سے عبادت کرنی رہ اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر

مَعَ الرَّكِيْعِيْنَ ﴿۴۳﴾ ذٰلِكَ مِّنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَاَمَّا كُنْتَ

رکوع کرنے والوں کے ساتھ - یہ (واقعات) غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم وہی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف، اور نہ تھے

لَدَيْهِمْ اذْ يَلْقَوْنَ اَفْلَاحًا مِّمَّ اِيْهُمْ يَكْفُلُ فَرِيْعًا وَاَمَّا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

آپ ان کے پاس جب پھینکے تھے وہ (مجاور) اپنی قلمیں (یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ) کون ان میں سے سرپرستی کرے مریم کی اور نہ تھے آپ ان کے پاس

اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۴۴﴾ اِذْ قَالَتْ الْمَلِيْكَةُ يٰرَبِّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَبْشُرُكَ

جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے - جب کہا فرشتوں نے: اے مریم! اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھے

بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اِسْمُ الْمَسِيْحِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا

ایک حکم کی اپنے پاس سے اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا معزز ہوگا دنیا

وَالْآخِرَةِ وَاَمِنَ الْمُقْرَبِيْنَ ﴿۴۵﴾ وَاِيْكُمُ النَّاسُ فِى الْهَدٰى وَكُهْلًا

اور آخرت میں اور (اللہ کے) مقربین سے ہوگا اور گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ گوارے میں بھی اور پکی عمر میں بھی

وَمِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴿۴۶﴾ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ

اور نیکوکاروں میں سے ہوگا - مریم بولیں: اے میرے پروردگار! کیونکر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ؟ حالانکہ

يَسِّنِي بَشَرًا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ

ہاتھ تک نہیں لگایا مجھے کسی انسان نے، فرمایا: بات یونہی ہے (جیسے تم کہتی ہو لیکن) اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، جب فیصلہ فرماتا ہے

أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۷﴾ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

کسی کام (کے کرنے) کا تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب و حکمت

وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۴۸﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ

اور تورات اور انجیل - اور (بھیجے گا اسے) رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف (وہ انہیں آ کر کہے گا کہ) میں

جئتكم بآيةٍ من ربكم ۱۱۱ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ

آ گیا ہوں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے (وہ معجزہ یہ ہے کہ) میں بنا دیتا ہوں تمہارے لئے کچھڑ سے

الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِيءُ الْأَكْمَةَ

پرندے کی سی صورت پھر پھونکتا ہوں اس (بے جان صورت) میں تو وہ فوراً ہو جاتی ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد ابلہ کو

وَالْأَبْرَصَ ۚ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ

اور (اعلاج) کوڑھی کو اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو

وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ

اور جو کچھ تم جمع کر رکھتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک ان معجزوں میں (میری صداقت کی) بڑی نشانی ہے تمہارے لئے اگر تم

مُؤْمِنِينَ ﴿۴۹﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِلَّا جَلَّ

ایمان دار ہو - اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی اور تاکہ میں حلال کر دوں

لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجئتكم بآيةٍ من ربكم ۱۱۱ تَقَفْ

تمہارے لئے بعض وہ چیزیں جو (پہلے) حرام کی گئی تھیں تم پر اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ ط

سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ بیشک اللہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے مجھے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تمہیں سو اس کی عبادت کرو،

هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۵۱﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ

یہی سیدھا راستہ ہے - پھر جب محسوس کیا عیسیٰ (علیہ السلام) نے ان سے کفر (واٹکار) (تو)

قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ

آپ نے کہا: کون ہیں میرے مددگار اللہ کی راہ میں؟ (یہ سن کر) کہا حواریوں نے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ (کے دین کی)

اللَّهُ أَمَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴿۵۲﴾ رَبَّنَا أَمَّا بِمَا أَنْزَلْتَ

ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور (اے نبی!) آپ گواہ ہو جائیو کہ ہم (علم الہی کے سامنے) سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اے رب ہمارے! ہم ایمان لائے اس پر جو تو

وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۳﴾ وَمَكْرُؤًا وَّفَكَرًا لِلَّهِ

نے نازل فرمایا اور ہم نے تابعداری کی رسول کی، تو لکھے ہمیں (حق پر) گواہی دینے والوں کے ساتھ اور بددلیوں (یعنی مخالفین کی) خفیہ بیبری۔ اور (سچ کو بچانے کے لئے) اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی،

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُنْكَرِينَ ﴿۵۴﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قُمْ

اور اللہ سب سے بہتر (اور موثر) خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ! یقیناً میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں

رَافِعًا إِلَىَّ وَمَنْ مَطَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ

اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں (کی تہمتوں سے) جنہوں نے (تیرا) انکار کیا اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے

اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ

تیری پیروی کی غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم نے

فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۵۵﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

پس (اس وقت) میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان (ان امور کا) جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ تو وہ جنہوں نے کفر کیا

فَاعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ

میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں اور نہیں ہوگا ان کے لئے کوئی

تَصْرِيحٍ ﴿۵۶﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ

مددگار - اور وہ جو ایمان لائے اور کئے نیک کام تو اللہ پورے پورے دے گا انہیں ان کے اجر،

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۵۷﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ

اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظالم کرنے والوں سے - یہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو آیتیں

وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿۵۸﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ

اور نصیحت حکمت والی - بے شک مثال عیسیٰ (علیہ السلام) کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم (علیہ السلام) کی مانند ہے، بنایا

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۹﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا

اسے مٹھی سے پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ (اے سننے والے!) حقیقت کہ (عیسیٰ انسان ہیں) تیرے رب کی طرف (بیان کی گئی) ہے پس تو نہ

تَكُنْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿۶۰﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ

ہو جا شک کرنے والوں سے - پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ آیا آپ کے پاس (یقینی)

۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰

مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ

علم تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی

وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى

اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی - پھر بڑی عاجزی سے (اللہ کے حضور) التجا کریں پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت

الْكَذِبِينَ ۱۹۱ إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا

جھوٹوں پر - بے شک یہی ہے واقعہ سچا ، اور نہیں کوئی معبود سوائے

اللهِ وَإِنَّ لِلَّهِ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۹۲ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ

اللہ کے اور بے شک اللہ ہی غالب ہے (اور) حکمت والا ہے - پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے

بِالْمُفْسِدِينَ ۱۹۳ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا

فساد برپا کرنے والوں کو - (میرے نبی!) آپ کہئے اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے

وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

اور تمہارے درمیان (وہ یہ کہ) ہم نہ عبادت کریں (کسی کی) سوائے اللہ کے اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے

بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

کسی کو رب اللہ کے سوا ، پھر اگر وہ روگردانی کریں (اس سے) تو تم کہہ دو گواہ رہنا (اے اہل کتاب) کہ تم

مُسْلِمُونَ ۱۹۴ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحْجُونَ فِي آيَاتِهِمْ وَمَا أَنْزَلَتْ

مسلمان ہیں - اے اہل کتاب! کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں حالانکہ نہیں اتاری گئی

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۱۹۵ مَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ

تورات اور انجیل مگر ان کے بعد ، کیا (اتنا بھی) تم نہیں سمجھ سکتے - سنتے ہو! تم وہ لوگ ہو جو

حَاجَّتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

جھگڑتے رہے ہو (اب تک) ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا پس (اب) کیوں جھگڑنے لگے ہو ان باتوں میں جنہیں ہے تمہیں جن کا کچھ علم

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۱۹۶ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَ

اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے - نہ تھے ابراہیم یہودی اور

لَا نَصْرَ لَنَا نَبِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۱۹۷

نہ نصرانی بلکہ وہ ہرگز ہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے ، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے -

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِذِهِمُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَ

بے شک نزدیک تر لوگ ابراہیم (علیہ السلام) سے وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی نیز یہ نبی (کریم) اور

الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۸﴾ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ

جو (اس نبی پر) ایمان لائے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے مومنوں کا۔ دل سے چاہتا ہے ایک گروہ

أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا

اہل کتاب سے کسی طرح گمراہ کر دیں تمہیں، اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو اور وہ (اس حقیقت کو) نہیں

يَشْعُرُونَ ﴿۹۹﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ

سمجھتے - اے اہل کتاب! کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا حالانکہ تم

تَشْهَدُونَ ﴿۱۰۰﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ

خود گواہ ہو - اے اہل کتاب! کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور (کیوں)

تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ

چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو - کہا ایک گروہ نے اہل

الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاءَ النَّهَارَ وَ

کتاب سے کہ ایمان لے آؤ اس (کتاب) پر جو اتاری گئی ایمان والوں پر صبح کے وقت اور

أَكْفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا لِسَانَ تَبَعٍ دِينِكُمْ

انکار کرو اس کا سرشام شاید (اس طرح) وہ (اسلام سے) برگشتہ ہو جائیں (ایک کے کہنا کیکر تڑپیں) کہرت سائوس کی بات سولے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی،

قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ

فرمائیے: ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو (اور یہ بھی نہ ماننا کہ) دیا جاسکتا ہے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا

أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن

یا کوئی حجت لاسکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس، (اے حبیب!) فرمادیتجئے کہ فضل (وکریم) تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جسے

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ يُخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ

چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والاسب کچھ جانے والا ہے خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰۳﴾ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنَ إِنْ تَأَمَّنْهُ

صاحب فضل عظیم ہے - اور اہل کتاب سے بعض ایسے (دیانتدار) ہیں کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس

يَقْنَطِرُ يُوَدَّةَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِيُنَارٍ لَا يُودَّةَ

ایک ڈھیر (سونے چاندی کا) تودا کر دے سے تمہاری طرف، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک اشرفی تو واپس نہ کرے گا اسے بھی

إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا

تیری طرف مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے، اس (بددینی) کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر

فِي الْأَمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾

ان پڑھوں کے معاملہ میں کوئی گرفت، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۶﴾

ہاں کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور پرہیزگار بنا تو بیشک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ شُرَكَاءَ قَلِيلًا

بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت

أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ

یہ وہ (بد نصیب) ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لئے آخرت میں اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ اور دیکھے گا بھی نہیں

إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۵۷﴾ وَإِنَّ

ان کی طرف قیامت کے روز اور نہ پاک کرے گا انہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور بیشک

مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَسْنِدَهُمْ بِالْكِتَابِ لِحَسْبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ

ان میں ایک فریق وہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ تاکہ خیال کرنے لگو (ان کی) اس (الٹ پھیر) کو بھی اصل کتاب سے

وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ

حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے (اترا) ہے حالانکہ وہ نہیں ہے

عِنْدَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵۸﴾ مَا

اللہ کے پاس سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ جان بوجھ کر حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ نہیں

كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ

ہے مناسب کسی انسان کے لئے کہ (جب) عطا فرمادے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکومت اور نبوت تو پھر

يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ

وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر (وہ تو یہ کہے گا کہ)

كُونُوا رِبِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ

بن جاؤ اللہ والے اس لئے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی اور جو اس کے کلمہ خود بھی اسے

تَدْرُسُونَ ﴿۶۹﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَالِيَةَ وَالْبَنِينَ

پڑھتے تھے اور وہ (مقبول بندہ) نہیں حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں اور پیغمبروں کو

أَرْبَابًا ۖ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۷۰﴾ وَإِذَا أَخَذَ

خدا، (تم خود سوچو) کیا وہ حکم دے سکتا ہے تمہیں کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو۔ اور یاد کرو جب لیا

اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِينَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ

اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے پھر

جَاءَكُمْ رَسُولٌ فَآمَنَ مَعَهُ لَمَّا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَكَلَّمْتُمُوهُ

تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہوا ان (کتابوں) کی جو تمہارے پاس ہیں تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد کرنا اس کی،

قَالَ أَأَقْرَبْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَيَّ ذَلِكُمْ أَمْ أَجِدُنَا أَقْرَبًا

(اس کے بعد) فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کی: ہم نے اقرار کیا،

قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۷۱﴾ فَمَنْ تَوَلَّى

(اللہ نے) فرمایا: تو گواہ رہنا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی پھرے اس (پختہ عہد)

بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۷۲﴾ أَفَغَيَّرْنَا اللَّهُ

کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا اللہ کے دین کے سوا (کوئی اور دین)

يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ

تلاش کرتے ہیں حالانکہ اسی کے حضور سر جھکا دیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا

كَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۷۳﴾ قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا

مجبوری سے اور اسی کی طرف وہ (سب) لوٹائے جائیں گے۔ آپ فرمائیے: ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر

وَمَا أُنزِلَ عَلَيَّ إِلَّا بَرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ

اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسحاق، یعقوب (علیہم السلام) اور

الْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

ان کے بیٹوں پر اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور (دوسرے) انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے

لَا تَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتُحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۸۷﴾ وَمَنْ

نہیں فرق کرتے ہم کسی کے درمیان ان میں سے ، اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں - اور جو

يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی (اور) دین تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے ، اور وہ قیامت کو

مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۸۸﴾ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ

زیاں کاروں میں سے ہوگا - کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا

إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

ایمان لے آنے کے بعد اور وہ (پہلے خود) گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور آچکی تھیں ان کے پاس کھلی نشانیاں ،

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۹﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمَا

اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو - ایسوں کی سزا یہ ہے کہ

عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۹۰﴾ خَلِيدِينَ

ان پر پھنکار پڑتی رہے اللہ کی فرشتوں کی اور سب انسانوں کی ہمیشہ رہیں

فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۹۱﴾ إِلَّا الَّذِينَ

اسی پھنکار میں ، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی مگر وہ لوگ

تَابُوا مِنِّي بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹۲﴾ إِنَّ

جنہوں نے (سچے دل سے) توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی - تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے (انہیں بخش دے گا) - یقیناً

الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ آذُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ

وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں ہرگز نہ قبول کی جائے گی

تُوبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿۹۳﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ

ان کی توبہ ، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں - جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے

كُفْرًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا وَاثِقًا

کفر ہی کی حالت میں تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا اگر چہ وہ (اپنی نجات کے لئے) عوضانہ دے

بِهِٗٓ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّاصِرِينَ ﴿۹۴﴾

اتنا سونا ایسے لوگوں کے لئے عذاب ہے دردناک اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار -